



## اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا : "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے ایک ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، تو فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور وغل کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کچھ دن کے میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں، جن میں وہ خوش ہوتا ہے : جب وہ روزے افطار کرتا ہے، تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو (اس کی جزا دیکھ کر) اپنے روزے سے خوش ہوگا"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے : آدم کی اولاد کے ہر عمل کو دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے سوائے روزے کے کیوں کہ روزے میرے لیے ہے اور اس میں ریا نہیں ہوتی۔ اس کا بدلہ بھی ہے دوں گا اور مجھ ہی پر ہے۔ اس کے کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کتنا گنا بڑھایا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا : "روزے ڈھال ہے" یعنی جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ، پردہ اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کیوں کہ روزے انسان کو خواہشات کا شکار ہونے اور گناہوں میں پڑنے سے روکتا ہے۔ جب کہ جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے (جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، تو فحش گوئی نہ کرے) یعنی جماع اور اس کے مقدمات سے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ ساتھ ہی مطلقاً کوئی دوسری فحش گوئی بھی نہ کرے (اور نہ شور و غل کرے) یعنی نہ جگھڑے اور نہ چیخ و پکار کرے (اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑنے پر آمادہ ہو) یعنی رمضان کے مہینے میں تو کچھ دن کے اس وقت میں روزے سے ہوں تو سکتا ہے کہ وہ لڑنا ترک کر دے لیکن اگر ہر حال میں لڑنے پر آمادہ ہو، تو جہاں تک ہو سکا کم سے کم زور صرف کرے اس سے بچ نکلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کی قسم کھا کر بتایا، جس کے ہاتھ میں آپ کی جان تھی کہ روزے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہے، جتنا انسان کے ہاں مشک کی بو اسی طرح انسان کے جمعے اور ذکر کی مجلسوں میں مشک لگانے کا جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ یہ بو ہوتی ہے روزے دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں۔ افطار کے وقت افطار کی خوشی کے بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، روزے پورا ہوا، عبادت مکمل ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے معاملہ آسان کر دیا کہ اگلے کل پھر روزے رکھا جا سکے (اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا) اللہ کی جانب سے ملنے والا اجر و ثواب کو دیکھ کر



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

